

کہتے ہیں کہ قتل انبیاء خدا کی کمزوری کا نتیجہ ثابت ہوگا، عرض ہے کہ مار ڈھاڑا اور ان کی تفسیک اور سب و شتم جس کو یہ دوست بھی مانتے ہیں، کیا آپ کی کمزوری پر منتج نہ ہوگی، غزوہ احد میں لاکڑے نبی کا جو شہر ہوا آپ کا کیا خیال ہے، وہ خدا کی طاقت کی نشانی ہے؟ دراصل یہ جذباتی باتیں ہیں۔ علمی نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ جن کے سلسلے میں چاہتے ہیں، محفوظ مہیا کر دیتے ہیں، اور نیزہ سارے کام عام اسباب کے مطابق چلتے ہیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ: اس طرح تبلیغ کا فریضہ ادھر رازہ جائے گا، بھئی، قتل ہو یا موت؟ وقت سے پہلے نہیں آتے۔ دنیا سے کوچ کا وقت مقرر ہے لیکن جانے کے راستے جدا جدا ہیں، جن کے جانے کا وقت آگیا ہے، وہی قتل ہوگا اور نہیں۔ اگر قتل نہ ہوتے تب بھی جانا تھا، توجیب وقت پر آپ طبعی موت کے ساتھ جاتے تو کیا پھر بھی تبلیغ ادھوری سمجھی جاتی؟ اصل میں انبیاء کا کام ابلاغ ہے یقیناً اس کا اتمام پہلے ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو کہنا تھا وہ کہہ بھی نہیں پائے تھے اور وہ قتل ہو گئے ہوں؟

جواب سوال ۱۲: اگر قرآن و حدیث کے احکام کو تسلیم کرنا کفر ہے تو یقیناً کفر ہے۔

جواب سوال ۱۳: نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بان ہواؤں کا معاملہ اور ہے۔ منکر کا اور۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث، صحف سماوی اور مغربین کی تصدیقات کے مطابق انبیاء کا قتل شرعاً منقطع نہیں ہے بلکہ یہ ایک واقعہ ہے۔ ذمہ دار علماء اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن و حدیث کے مطابق قتل انبیاء پر یقین رکھنے والوں کو کافر کہنا، جڑی و حاندنی اور نادانی ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت کی مندرجہ بالا نصوں کی تائید کرتے ہیں، وہ سلفی نہیں ہو سکتے، الٹا اندیشہ ہے کہ ان کا اپنا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے!

(استفتاء ۲۱)

(۱)۔ ماہراری کے دنوں میں اگر عورت آیت سجدہ "سن لے تو کیا کرے؟ سجدہ کرے یا نہ؟ (۲) بریلویوں کی مسجد میں شور مچ رہا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی کعبتیں پڑھتے تھے۔ کیا یہ صحیح ہے؟

الجواب :-

آیت سجدہ اور حائضہ ۱: ان ابھی سن لے تو حائضہ پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ اس لیے آیت سجدہ بھی سن لے تو نماز فرض نہیں ہوتی، اس لیے آیت سجدہ بھی سن لے تو اس کے لیے سجدہ تلاوت ضروری نہیں